

CHAPTER ELEVEN

THE MIRACLES OF OUR BELOVED PROPHET MUHAMMAD

Sallallahu 'alayhi wa Sallam

1. Living Miracle: The Holy Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے (اس خاص) بندے پر اتارا تو اس جیسی
ایک سورت تولے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو

And if you are in doubt concerning that which We have revealed to Our Special Devotee, then bring a chapter like it, and call your witnesses, besides Allah, if you are truthful. (2:23)

قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا

يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس
کا مثل نہ لاسکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو

Say (O beloved Prophet): "If the mankind and the jinn should gather together to produce the like of this Qur'an, they could not produce the like thereof though they were the helpers one of another". (17:88)

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٢٤﴾

تو اس جیسی ایک بات تولے آئیں اگر سچے ہیں

Then let them bring a discourse like it, if they are truthful. (52:34)

2. Human Miracle: he was the wasila (means) through whom people's hearts were transformed

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾

اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے کہتے ہیں اے رب ہمارے! ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے

And when they hear what has been revealed to the (Prophetic) Messenger, you see their eyes overflowing with tears because of their recognition of the Truth. They say: “Our Lord, we believe, so inscribe us as among the witnesses (of truth)”. (5:83)

3. Heavenly Miracle: Isra' and Mi'raj (his heavenly ascent)

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١٧١﴾

پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے گرداگرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بیشک وہ سنتا دیکھتا ہے

Glorified is He Who took His Special Devotee for a journey by night from the Sacred Masjid (in Makkah) to the Masjid al-Aqsa (in Jerusalem) whose precincts We have blessed, so that We might show him of Our Signs. Surely, He, only He, is the All-Hearing, the All-Seeing. (17:1)

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٩﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿١١﴾ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾
 وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ
 إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿١٥﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٦﴾ لَقَدْ
 رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿١٨﴾

پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا
 تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم
 اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی
 دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا
 تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو
 اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا
 سدرۃ المنتہیٰ کے پاس
 اس کے پاس جنت الماویٰ ہے
 جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا
 آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی
 بیشک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں

Then he drew near (to his Lord), then he came closer
 Till he was (distant) two bow-lengths or even nearer.
 Now He (Allah) revealed to His Special Devotee whatever He revealed.
 The heart (of the Prophet) did not falsify what he saw.
 Will you then dispute with him concerning what he saw?

And indeed he saw Him (His Nur, Divine Light) in another descent
 By the lote-tree of the utmost boundary,
 Near to which is the Paradise of Abode.
 When that (light) which enshrouds did enshroud the lote-tree
 The sight (of the Beloved Prophet) turned not aside nor exceed the limit.
 Certainly, he saw of the greatest Signs of his Lord. (53:8-18)

4. Historic Miracle: Hijra; he escaped while surrounded

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ
 هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ
 سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بیشک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے
 انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے جب اپنے یار
 سے فرماتے تھے غم نہ کھا بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا
 اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھیں اور کافروں کی بات نیچے ڈالی اللہ
 ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے

If you do not help him (it does not matter), indeed Allah helped him when those who
 disbelieve drove him forth, (with him was) the second of the two; when they were both in
 the cave (of Thawr), when he said to his Companion: “Grieve not, surely, Allah is with
 us”. Then Allah caused His peace of reassurance to descend upon him and supported him
 with forces (angels) which you did not see, and made the word of those who disbelieved
 the lowest, while Allah's Word, that is the highest, and Allah is Mighty, Wise. (9:40)

5. The miracle of the battle of Badr: Victory against all odds

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ
تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ
الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا
يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

اور بیشک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سروسامان تھے تو اللہ سے ڈرو
کہیں تم شکر گزار ہو

جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب
تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتہ اتار کر
ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آپڑیں تو تمہارا رب
تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجے گا

And Allah had certainly assisted you at Badr, when you were weak (in resources). So be in reverential awe of Allah so that you may be thankful.

(O beloved Prophet!) When you said to the Muslim believers: “Is it not sufficient for you that your Lord should assist you with three thousand of the angels sent down”?

Yes, if you remain patient and pious, and they attack you suddenly, your Lord will help you with five thousand angels marked out (for your help). (3:123-125)

6. The splitting of the moon

أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَإِنْ يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ

مُسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾

پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند

اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آتا

The Hour drew near and the moon was split (in two).

And if they (the non-believers) see a Sign, they turn away and say: “(This is) perpetual magic”. (54:1-2)